

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- | | |
|--|---|
| ① پڑھو (وہ نبی) اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا | ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ |
| پیدا کیا انسان کو (لفظہ مخلوق کے معنی ہوئے خون سے ②) | خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢﴾ |
| پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے ③ | ﴿اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣﴾ |
| جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ سے ④ | الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤﴾ |
| سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا وہ ⑤ | ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ |
| خبردار! بے شک انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے ⑥ | ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝٦﴾ |
| اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ خود کو بے نیاز ⑦ | ﴿أَنْ يَرَاهُ اسْتَغْنَىٰ ۝٧﴾ |
| بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ⑧ | ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٨﴾ |
| بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے ⑨ | ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٩﴾ |
| ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ⑩ | ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠﴾ |
| بھلا دیکھو تو اگر ہو (وہ بندہ) راہ راست پر ⑪ | ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝١١﴾ |
| یا تلقین کرتا ہو پرہیزگاری کی ⑫ | ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝١٢﴾ |
| تمہارا کیا خیال ہے اگر جھٹلاتا ہو یہ (منع کرنے والا) اور نہ مومنانا ہو ⑬ | ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٣﴾ |
| کیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ⑭ | ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَرَىٰ ۝١٤﴾ |

خبردار! اگر نہ باز آیا وہ

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهٗ ۙ

تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اسے، پیشانی کے بل ⑮

لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطا کا بھی ⑮

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۙ

پس بلائے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو ⑮

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

ہم بھی بلائے لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو ⑮

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ۙ

خبردار! نہ مانو کہا اس کا

كَلَّا لَا تَطْعُمُهُ

اور سجدہ کرو (اپنے رب کو) اور قرب حاصل کرو ⑮

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۙ